

# ٹھہریں اور سوچیں

## اس فیڈرل الیکشن میں ماخذ کا پتہ چلائیں



فیڈرل الیکشن میں بہت زیادہ معلومات پھیلائی جاتی ہیں جن کا مقصد آپکے ووٹ پر اثر انداز ہونا ہے۔

یہ اہم ہے کہ آپ جو دیکھیں، سنیں یا پڑھیں، اس پر غور کریں۔ اگر آپکو معلومات کے حوالے سے کوئی شک و شبہ ہو تو کچھ سوالات اٹھا کر آپ خود اپنی رائے تشکیل دے سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔

### AEC کا کردار

AEC ایک خودمختار ادارہ ہے جسے فیڈرل الیکشن 2019 کا انتظام سونپا گیا ہے۔

AEC کا کردار یہ ہے:

### انتخابات کے عمل کے بارے میں قابل اعتبار معلومات فراہم کرنا

AEC اپنی اشتہاری مہم، ویب سائٹ، رابطہ مرکز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس بارے میں معلومات تک آسان رسائی فراہم کرے گا کہ بطور ووٹر اندراج کیسے کیا جائے، ووٹ کیسے دیا جائے یا انتخابی امیدوار کیسے بنا جائے۔

اگر انتخابات سے متعلق ان کاموں کے بارے میں کوئی غلط معلومات پائی جاتی ہوں تو AEC ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا۔ انتخابات سے تعلق رکھنے والے ان کاموں سے ہٹ کر - AEC کا ایسا کوئی کردار نہیں کہ انتخابات کے بارے میں معلومات کی درستگی کو چیک کرے۔

### انتخابات سے متعلق معلومات یا خبروں کی منظوری کی چھان بین کرنا

انتخابات سے متعلق بعض معلومات یا خبروں کے ضمن میں ضروری ہے کہ وہ منظور شدہ ہوں تاکہ آپکو معلومات کا ماخذ جاننے میں مدد ملے۔ شکایات ملنے پر AEC انتخابات سے متعلق ایسی معلومات کی چھان بین کرے گا جن کی درست منظوری مہیا نہ کی گئی ہو۔

### بحیثیت ووٹر آپکا کردار

یہ غور کرنے کے لیے وقت لگائیں کہ کیا معلومات:

### قابل اعتبار ہیں

کیا یہ کسی قابل اعتبار یا پہچانے جا سکنے والے ماخذ سے لی گئی ہیں؟

کیا آپ معلومات کے ماخذ کو جانتے ہیں؟ کیا یہ کسی سند یافتہ ذریعہٴ ابلاغ یا توثیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آئی ہیں؟

انتخابات کے قوانین معلومات کی سچائی کے اصول و ضوابط طے نہیں کرتے۔

### تازہ

### معلومات کب شائع کی گئی تھیں؟

اگر کوئی پوسٹ/مضمون آج شیئر کیا گیا ہے تو محض اس وجہ سے اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تازہ ہے۔ ہمیشہ اصل ماخذ اور اشاعت کی تاریخ چیک کریں۔

### محفوظ

### کیا یہ دھوکہ ہو سکتا ہے؟

اگر آپ کو سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پھیلائی جانے والی معلومات کے ماخذ یا مندرجات پر شک ہو تو یہ اہم ہے کہ آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے محتاط غور و فکر کر لیں۔

جہاں ممکن ہو، آپکو معلومات کے ماخذ کی رابطہ تفصیلات چیک کرنی چاہئیں۔

معلومات مہیا کرنے والوں، سرکاری اداروں اور ذرائع ابلاغ کے کردار کے بارے میں جاننے کے لیے AEC کی ویب سائٹ دیکھیں۔